



نیک سب کا نسخہ

اسلامی سوالوں کے لیے

پندرہویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت  
شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مانی و محبت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو ہلال  
محمد الیاس عطار قادری رضوی

نے اس بے فتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر  
مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ

# 63 نیک اعمال

بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ ان کے مطابق عمل کرنے کا  
طریقہ کار آخر میں دیا گیا ہے۔

پیش کش: مرکزی مجلس شوریہ (دعوتِ اسلامی)

## یومیہ 47 نیک اعمال

### پہلا درجہ 17 نیک اعمال

(1) کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے کم از کم ایک اچھی نیت کی؟ (کاش! کسی ایک کو ترغیب بھی دیجئے۔ تین کاموں میں اچھی نیت کرنے سے نیک عمل پر عمل مان لیا جائے گا)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(2) کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں ادا فرمائیں؟ (کاش! اپنے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کرنے کی سعادت مل جائے کہ یہ مستحب ہے۔ زہے نصیب حیض و نفاس کے دنوں کے علاوہ جتنی دیر نماز میں لگتی تھی اتنی دیر حیض و نفاس کے دنوں میں ذکر و درود یادینی مطالعہ (بغیر آیت و ترجمہ چھوئے) کرنے میں مصروف رہیں؟)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(3) کیا آج آپ نے پانچوں نمازوں کے بعد کم از کم ایک بار آیتہ الکرسی، سورۃ الاخلاص اور تسبیح فاطمہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا پڑھی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(4) کیا آج آپ نے رات میں سُورَةُ الْمَدِّکِ پڑھی یا سُن لی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(5) کیا آج آپ نے کنزُالایمان مع خزائنُ العرفان یا نُورُ العرفان یا آسان ترجمہ قرآن کنزُالعرفان مع افہامُ القرآن سے کم از کم تین آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں یا سُنیں؟ یا تفسیر صراطُ الجنان سے کم و بیش دو صفحات پڑھی یا سُن لیں؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(6) کیا آج آپ نے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(7) کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار دُرُود شریف پڑھا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(8) کیا آج آپ نے آنکھوں کو گناہوں (یعنی بد نگاہی، فلمیں ڈرامے، موبائل

پر گناہوں بھری ویڈیوز دیکھنے) سے بچایا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(9) کیا آج آپ نے **کانوں کو گناہوں** (یعنی غیبت، گانے باجے، بُری اور گندی باتوں، موبائل کی میوزیکل ٹیون، کالر ٹیون وغیرہ وغیرہ سُننے) سے بچایا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(10) راستے میں چلتے ہوئے یا کار یا بس وغیرہ میں سَفَر کے دوران خود کو فضول نگاہی سے بچاتے ہوئے کیا آج آپ نے **نگاہیں نیچی رکھیں؟** اور بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا؟ (زہے نصیب! کسی سے بات کرتے وقت سامنے والے کے چہرے پر بلا ضرورت مسلسل نظر جمی رہنے کے بجائے نیچی رہا کرے)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(11) کیا آج آپ نے اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ یا مکتبۃ المدینہ کی کسی **کتاب** یا **رسالے** یا "ماہنامہ فیضانِ مدینہ" کو کم از کم 12 منٹ پڑھا یا سنا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(12) کیا آج آپ نے بات چیت، فون پر گفتگو اور کام کاج روک کر **آذان کا جواب** دیا؟ (اگر پہلے سے کھاپی رہی ہوں اور آذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا جاری رکھا تو حرج نہیں، اسی طرح نماز کی تیاری کے سلسلے میں چلنے اور وضو کرنے وغیرہ میں بھی

کوئی حرج نہیں۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(13) آج آپ نے (گھر میں یا باہر) کسی پر غصہ آجانے کی صورت میں چُپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑیں؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(14) کیا آج آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے کے خانے پُر کئے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(15) کیا آج آپ نے ”عالمی مجلس مشاورت“ کے اصولوں کے مطابق اپنی نگران کی اطاعت کی؟ (فرمانِ امیرِ اہل سنت دامت بركاتہمُ العالیہ: شریعت کی اجازت ہونے کی صورت میں شوریٰ کی اطاعت میری اطاعت، شوریٰ کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ (شعبہ اصلاحِ اعمال))

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(16) کیا آج آپ نے گھر اور باہر ہر چھوٹے بڑے سے اچھے انداز سے (یعنی

”آپ، جناب“ اور ”جی“ کہہ کر گفتگو کی؟ (حسب موقع چہرے پر مسکراہٹ رکھئے جبکہ نامحرم نہ ہوں)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(17) کیا آج آپ نے **مدرسة المدینہ** (باغات) میں قرآن کریم ”پڑھا“ یا ”پڑھایا“؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

## دوسرا درجہ 18 نیک اعمال

(18) کیا آج آپ نے دعوتِ اسلامی کے دینی کاموں کو اپنی نگران کے دیئے ہوئے شیڈول کے مطابق کم از کم دو گھنٹے دیئے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(19) کیا آج آپ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے بلا ضرورت باہر نیز کسی اور کے دروازوں وغیرہ سے اُن کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(20) کیا آج آپ کے ہاں گھر درس ہوا؟ یا کسی عذر کی صورت میں آپ کی غیر موجودگی میں گھر درس کا سلسلہ ہوا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(21) آج آپ نے کہیں نا محرم رشتے داروں، نا محرم پڑوسیوں نیز دیور یا جیٹھ سے معاذ اللہ بے تکلف ہو کر گفتگو کرنے کا ممنوع کام تو نہیں کیا؟ کیا ان کے سامنے آنے سے کترائیں اور ان سے شرعی پردہ کیا؟ (سُسر سے بھی احتیاط رہے تو اچھا ہے)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(22) آج آپ نے گھر سے باہر نکلنے وقت شرعی پردہ کیا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(23) آج آپ نے ایسا چست، باریک یا چھوٹا لباس (جس سے جسم کا اُبھار ظاہر ہو یا رنگت جھلکے) پہن کر معاذ اللہ کہیں بے پردگی تو نہیں کی؟ (کاش! گناہوں بھرا فیشن کرنے مثلاً مردوں کی طرح بال کٹوانے، ابرو بنوانے، چالیس دن سے زائد ناخن بڑھانے وغیرہ سے بچنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔) اسلامی بہنوں کا سنت لباس: ابو داؤد و نسائی

وابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِسْبَالٌ یعنی کپڑے کے نیچا کرنے کی ممانعت تہبند و قمیص و عمامہ سب میں ہے۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: ایک باشت لٹکالیں (یعنی آدھی پنڈلی کے نیچے ایک باشت لٹکائیں) عرض کی، اب تو عورتوں کے قدم کھل جائیں گے، ارشاد فرمایا: ایک ہاتھ لٹکالیں اس سے زیادہ نہیں۔“ (بہار شریعت، حصہ 16، 3/402)

**نوٹ:** اپنے بچوں اور بچیوں کو غیر مہذب لباس سے بچائیں (مثلاً: بچیوں کو لمبا اور کھلا لباس چھوٹے گلے والا پہنائیں اور بچوں کو بھی آدھی پنڈلی کرتے وغیرہ کا عادی بنائیں۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(24) کیا آج آپ باطنی گناہوں سے بچیں؟ (مثلاً: حسد، تکبر، کینہ، ریاکاری وغیرہ وغیرہ)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(25) کیا آج آپ شادی شدہ ہونے کی صورت میں شوہر اور غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں والدین کے ساتھ ادب و احترام بجالائیں؟ (ان کی کہی



ہوئی بات شریعت کے مطابق ہو تو ماننا، والدہ کا ہاتھ چومنا، اُن کی آواز سے اپنی آواز کم رکھنا وغیرہ۔ سسرال میں ہونے کی صورت میں ساس کے لئے بھی اس کا لحاظ فرمائیں مزید تفصیلات کے لیے رسالہ ”سمندری گنبد“ کا مطالعہ فرمائیے۔

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(26) کیا آپ نے مَعَاذَ اللّٰہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کی؟ (کاش! روزانہ کم از کم 70 بار استغفار مثلاً 70 بار اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ پڑھنا نصیب ہو جائے)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(27) کیا آج آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا اور کھانے سے پہلے اور بعد کی دُعا میں پڑھیں؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(28) کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ **سنتوں پر عمل** کیا؟ (مثلاً گھر میں آنے جانے، سونے جاگنے، قبلہ رُخ بیٹھنے وغیرہ)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(29) کیا آج آپ نے اپنی اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کی؟ (وقتاً فوقتاً نماز کی ترغیب اور وضو وغیرہ، کھانا، پانی اور بجلی میں اسراف (ضائع) سے بچنا، بالخصوص سنت کے مطابق کھانا پینا، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور گالی گلوچ، کھلونوں میں میوزک، گیمز اور فضول استعمال کے لئے موبائل فون دینا، بات چیت میں آپ اور جی وغیرہ وغیرہ۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(30) کیا آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھی؟ یارات نہ سونے کی صورت میں صلوٰۃ اللیل ادا کی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(31) کیا آج آپ نے اواین یا اشراق و چاشت کے نوافل پڑھے؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(32) کیا آج آپ نے عصر یا عشا کی سنت قبلیہ پڑھیں؟ (زہے نصیب!

عصر اور عشاء دونوں کی سنت قبلیہ اور ظہر و مغرب و عشا کے نوافل بھی ادا کئے جائیں۔

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(33) کیا آج آپ نے انفرادی کوشش کے ذریعے دعوتِ اسلامی کے

8 دینی کاموں میں سے کم از کم ایک دینی کام کی ترغیب دلائی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(34) آج آپ نے گھر کے افراد کے علاوہ کسی سے (کپڑے، موبائل فون، چپل،

زیورات وغیرہ) چیزیں دوسروں سے مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟

(دوسروں سے سوال کی عادت ہو تو نکال دیجئے، ضرورت کی چیز نشانی لگا کر اپنے پاس

بحفاظت رکھئے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(35) کیا آج آپ جھوٹ بولنے، غیبت و جُغلی کرنے / سننے

سے بچیں؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

## تیسرا درجہ 12 نیک اعمال

(36) کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ وقت کے لئے ”مَدَنی چینل“ دیکھا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(37) کیا آپ کی کسی ایک یا چند سے دُنیوی طور پر ذاتی دوستی ہے؟

(ذاتی دوستیاں اور گروپ، تنظیمی کاموں کی ترقی میں عام طور پر رُکاوٹ بنتے ہیں۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(38) آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں (اداگی کی طاقت کے باوجود)

قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض ادا کرنے میں تاخیر تو نہیں کی؟ نیز کسی

سے عارضی طور پر (یعنی Temporary) لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر طے

کئے ہوئے وقت کے اندر واپس کر دی؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(39) آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے

بول کر نفاق کا گناہ تو نہیں کیا؟ (مثلاً: دیگر اسلامی بہنوں کے دل میں اپنی عزت

بنانے کے لئے اس طرح کے الفاظ کہنا جیسے: ”میں حقیر ہوں، بہت گناہگار ہوں“ وغیرہ

وغیرہ جبکہ دل میں خود کو ایسا نہ سمجھتی ہوں)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(40) کیا آج آپ نے صفائی ستھرائی اور سلیقہ مندی کا خیال رکھا؟

(صفائی ستھرائی: یعنی بدن و لباس گھر اور بچوں کو صاف رکھنا وغیرہ۔ سلیقہ: یعنی وقت کی پابندی، گھر اور اپنی یا کسی اور کی گاڑی میں بیٹھتے وقت بلا ضرورت زور سے دروازہ بند کرنا، اپنے گھر، تعلیم گاہ یا کسی کے ہاں کی جو چیز اجازت ہونے کی صورت میں اٹھائی پھر اسی جگہ رکھنا وغیرہ)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(41) آج آپ نے کسی مسلمان کا عیب ظاہر ہو جانے پر (بلا مصلحتِ شرعی)

اُس کا عیب کسی اور پر ظاہر تو نہیں کیا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(42) کیا آج آپ نے ہر جائز و عزت والے کام سے پہلے بِسْمِ اللہ پڑھی؟

(کم از کم تین بار پڑھنے والے کا عمل مان لیا جائے گا۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(43) کیا آج آپ نے اپنے والدین اور اپنے پیرو مُرشد کے لئے بے حساب

مغفرت کی دعا اور کچھ نہ کچھ ایصالِ ثواب کیا؟ (ایک بار دُرُود شریف پڑھ

کر بھی ایصالِ ثواب کیا جاسکتا ہے)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(44) کسی ذمّے دار (یا عامِ اسلامی بہن سے) بُرائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی

ضرورت محسوس ہو تو تحریری طور پر بذریعہ میسج یا براہِ راست مل کر (دونوں

صورتوں میں نرمی کیساتھ) سمجھانے کی کوشش فرمائی، یا مَعَاذَ اللّٰهِ بلا اجازتِ

شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھیں؟ ہاں! خود سمجھانے

کی جرأت نہ ہو، یا ناکامی کی صورت میں تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل

کرنے میں حرج نہیں۔ (جبکہ اُس کی بُرائی دعوتِ اسلامی کے لئے نقصان دہ ہو)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میران	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(45) کیا آج آپ نے زبان کو گناہوں (یعنی الزام تراشی، دل آزاری، گالی گلوچ وغیرہ) سے بچایا؟

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(46) کیا آج آپ نے زبان کو فضول استعمال (یعنی وہ گفتگو جس سے دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو) سے بچانے کی عادت بنانے کے لئے کچھ نہ کچھ اشارے سے گفتگو کی؟ (زہے نصیب! روزانہ کم از کم چار بار لکھ کر اور کم از کم تین بار اشارے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

(47) کیا آج آپ نے (گھر میں اور باہر) مذاق مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہہ لگانے (یعنی کھل کھلا کر ہنسنے) سے بچنے کی کوشش کی؟ (یاد رکھئے! کسی مسلمان کا بلاوجہ شرعی دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے۔)

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
میزان	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

## قفل مدینہ کارکردگی

تاریخ	لکھ کر گفتگو	اشارے سے گفتگو	نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو
	کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو	اشارے سے گفتگو	لکھ کر گفتگو	تاریخ
کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ	کم از کم 12 مرتبہ	16
			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31

## ہفتہ وار 5 نیک اعمال

(48) کیا آپ نے اس ہفتے (اگر آپ کی بات مانی جاتی ہو یا آپ با اختیار ہوں) کسی نہ کسی محرم مرد (مثلاً بھائی / بیٹا / والد وغیرہ) یا شوہر کو اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں بھیجنے کی کوشش کی؟

(49) کیا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے / سُننے کی سعادت حاصل کی؟ (دورانیہ: سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم ایک گھنٹہ 12 منٹ)

(50) ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اوّل تا آخر شرکت کی؟

(51) کیا آپ نے اس بار کا ہفتہ وار رسالہ پڑھ یا سُن لیا؟

(52) کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف (یارہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن) کا روزہ رکھا؟

### ماہانہ 3 نیک اعمال

(53) کیا پچھلے مہینے کا نیک اعمال کار سالہ فیل یعنی پُر کر کے اپنی نگران یا ذمہ دار کو جمع کروایا، یا موبائل فون کی Neik Amaal نامی Application کے ذریعہ Submit کیا؟

(54) کیا آپ نے اس ماہ کم از کم ایک اسلامی بہن کو (جو پہلے دینی ماحول میں تھیں یا پہلے اجتماع میں آتی تھیں مگر اب نہیں آتیں) تلاش کر کے اُن کو دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی؟

(55) کیا آپ نے ماہانہ مدنی حلقے میں شرکت کی؟

## سالانہ 5 نیک اعمال

(56) کیا آپ نے فرض ہونے کی صورت میں بلاتا خیر زکوٰۃ ادا کی؟ نیز واجب ہونے کی صورت میں قربانی کرنے کی سعادت پائی؟ (جن زیورات کی مالک عورت ہو (شرائط بھی پائے جائیں) خواہ وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے کر ان کا مالک بنا دیا ہو تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا عورت پر فرض ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، 10/132) قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی جانے کی صورت میں جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ (بہار شریعت، حصہ 15، 3/332))

(57) کیا آپ نے اس سال حیض و نفاس کی وجہ سے **رمضان المبارک** کے رہ جانے والے روزے اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کر لئے؟ (یاد رہے! حیض و نفاس کے دنوں میں نماز معاف ہے

مگر روزے قضا کرنے ہوتے ہیں)

(58) کیا آپ نے بہارِ شریعت یا اسلامی بہنوں کی

نماز سے پڑھ یا سن کر اپنے وُضُو، غُسل اور نماز دُرست

کر کے کسی مبلغ یا محرم مبلغ کو سنا دیئے ہیں؟

(59) کیا آپ نے حُرُوف کی مَخارج سے ادائیگی کے ساتھ کم از

کم ایک بار قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا ہے؟ اور اسے اس سال

دُھرا لیا؟

(60) کیا آپ نے اس سال ان دو کتابوں ”کفریہ کلمات کے

بارے میں سوال جواب“ اور ”پردے کے بارے میں سوال

جواب“ کا مطالعہ کر لیا؟

## زندگی بھر کے 3 نیک اعمال

(61) کیا آپ نے زندگی بھر کے نصاب کا مطالعہ فرمایا؟  
 (منہاج العابدین، جاء الحق، بہار شریعت حصہ 9 سے مُرتد کا بیان، حصہ 16  
 سے خرید و فروخت کا بیان اور والدین کے حقوق کا بیان، (اگر شادی شدہ ہیں  
 تو) حصہ 7 سے مُحَرَّامات کا بیان اور حقوق الزوجین، حصہ 8 سے بچوں کی  
 پرورش کا بیان، حرمتِ مصاہرت، طلاق کا بیان، ظہار کا بیان اور طلاقِ کنایہ  
 کا بیان۔ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كُتِبَ ”تمہید الایمان، حسام الحرمین“ نیز  
 مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں ”چندے کے بارے میں سوال جواب، بنیادی  
 عقائد اور معمولاتِ اہلسنت، عقیدہ آخرت، دس عقیدے، اسلام کے بنیادی  
 عقیدے، الْحَقُّ الْمُبِين، اسلام کی بنیادی باتیں (تینوں حصے)، کتاب العقائد،  
 گلدستہ عقائد و اعمال، گانوں کے 35 کفریہ اشعار، 28 کلماتِ کفر، اعلیٰ حضرت

سے سوال جواب، علم القرآن، نماز کے احکام اور فیضانِ سنت کے تمام ابواب پڑھ یائیں لئے؟ (کاش! ہر سال ماہ شعبان المعظم میں فیضانِ سنت کا باب ”فیضانِ رمضان“ پڑھ یائیں لیں۔)

(62) زندگی میں ایک بار دعوتِ اسلامی کے تحت ہونے والے **مختلف کورسز** (بالخصوص ”آئیے دینی کام سیکھئے“ اور جنت کا راستہ“ کئے؟

(63) کیا آپ نے چھ کلمے، ایمانِ مفصل، ایمانِ مجمل، اذان اور اس کے بعد کی دعا، قرآن شریف کی کم از کم آخری دس سورتیں، دعائے قنوت، التحیات، درودِ ابراہیمی اور کوئی ایک دعائے ماثورہ۔ یہ سب درست مخارج کے ساتھ زبانی یاد کر لئے ہیں؟ (زبے نصیب! ہر ماہ کی پہلی پیر شریف یا رہ جانے کی صورت میں کسی اور دن یہ سب دہرائے جائیں)

## عطار کی مدنی بیٹی

امیرِ اہلِ سنت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ الْعَالِیَہ فرماتے ہیں: جو ذیل میں دیئے گئے

چار کام پابندی سے کرے وہ میری ”مدنی بیٹی“ ہے۔

(1) روزانہ کم از کم 12 بار لکھ کر گفتگو۔

(2) روزانہ کم از کم 12 بار اشارے سے گفتگو۔

(3) روزانہ کم از کم 12 بار سامنے والے کے چہرے پر نظریں گاڑے بغیر گفتگو۔

(4) ہر ماہ کم از کم 52 نیک اعمال پر عمل۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ



ہر اسلامی بھائی اور بہن کے لیے یکساں مفید



# جَنَّتِ کے طلبگاروں کے لئے مَدَنیہ گلدستہ

مکتبۃ المدینہ  
(دہلی، پاکستان)  
SC 1286



دارالافتاء  
دہلی (پاکستان)  
مکتبہ

نام مع ولدیت ..... عمر تقریباً .....

مکمل پتا .....

ذیلی حلقہ ..... حلقہ ..... علاقہ / شہر .....

1. اس ماہ 63 ”نیک اعمال“ میں سے کتنے پر عمل کی کوشش رہی؟

2. اس ماہ کتنے دن جائزہ لینے کی سعادت حاصل کی؟

3. اس ماہ مدنی بیٹی بننے کی سعادت حاصل ہوئی؟

4. اِنْ شَاءَ اللهُ آئندہ ماہ  ”نیک اعمال“ پر عمل کی کوشش کروں گی

آپ نے جائزہ لینے کے لئے کون سا وقت مقرر فرمایا ہے؟ .....

